



آسٹریلیا میں آمد

قرنطینہ سے مستثنیٰ پروازوں سے پہنچنے والے مسافروں (گرین زون) کو دیگر ایسے مسافروں سے علیحدہ رکھنے کو یقینی بنانے کے لئے، جن کے لئے 14 دن کا لازمی قرنطینہ کرنا ہے (ریڈ زون)، آسٹریلیا کے ہوائی اڈوں پر سبز اور سرخ زون بنائے گئے ہیں۔

آپ خود بخود آسٹریلیائی سفری پابندیوں سے مستثنیٰ ہیں (اور آپ کو استثنیٰ کی درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے) اگر آپ 72 گھنٹے یا اس سے کم وقت کے لئے آسٹریلیا سے ٹرانزٹ کر رہے ہیں۔

آپ جس ریاست یا علاقے میں پہنچتے ہیں، آپ کو وہاں کے قرنطینہ کے تقاضوں پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔

نوٹ: آسٹریلیا سے ٹرانزٹ کرنے والے مسافروں کے لئے لازمی ہے کہ وہ ایک ریڈ زون کی پرواز میں آگے کی ٹکٹ حاصل کریں جو ابتدائی داخلے کے بعد آسٹریلیا سے 72 گھنٹوں کے اندر روانہ ہوتی ہو۔ اگر کوئی مناسب ریڈ زون کی منسلک کرنے والی (کنیکٹنگ) پرواز دستیاب نہیں ہے تو، آسٹریلیا سے ٹرانزٹ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔

آسٹریلیا سے ٹرانزٹ کرنے کے لئے ویزا کی شرائط

آسٹریلیا سے ٹرانزٹ کرنے کے لئے آپ کے پاس ایک درست ویزا ہونا چاہئے یا آپ کا تعلق کسی [ویزا کے بغیر ٹرانزٹ \(TWOV\)](#) کرنے کے اہل ملک سے ہونا چاہئے۔

اگر آپ کے پاس کوئی درست ویزا نہیں ہے یا آپ TWOV کے لئے اہل نہیں ہیں تو آپ کو آسٹریلیا میں داخل ہونے کے لئے ویزا کی درخواست دینی ہوگی۔

72 گھنٹوں کے اندر-اندر آسٹریلیا سے ٹرانزٹ کرنے کے لئے [ٹرانزٹ ویزا \(ذیلی کلاس 771\)](#) کے لئے درخواست دیں۔

میں 72 گھنٹوں کے اندر-اندر آسٹریلیا سے ٹرانزٹ کرنے والا ایک نیوزی لینڈ کا شہری ہوں

نیوزی لینڈ کے وہ شہری جو [خصوصی زمرے والے ویزا \(ذیلی کلاس 444\)](#) کے لئے اہل ہیں، انہیں 72 گھنٹوں کے اندر-اندر آسٹریلیا سے ٹرانزٹ کرنے کے لئے دوسرے ویزا کی درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

خصوصی زمرے والے ویزا پر ٹرانزٹ کرنے کے لئے، آپ کے پاس اس بات کا ثبوت ہونا ضروری ہے کہ آپ 72 گھنٹوں کے اندر-اندر ٹرانزٹ کر رہے ہیں (جیسے سفر کے مجوزہ روٹ یا پرواز کی ٹکٹ) اور آپ آسٹریلیا کے جس شہر میں پہنچ رہے ہیں اس کے ہوائی اڈے پر اسے پیش کرنا ہوگا۔

نوٹ: آسٹریلیا سے ٹرانزٹ کرنے والے مسافروں کے لئے لازمی ہے کہ وہ ایک ریڈ زون کی پرواز (ایسی پرواز جس کے لئے پہنچنے پر لازمی قرنطینہ کرنا ضروری ہو) میں آگے کی ٹکٹ حاصل کریں جو ابتدائی داخلے کے بعد آسٹریلیا سے 72 گھنٹوں کے اندر-اندر

روانہ ہوتی ہو۔ اگر کوئی مناسب ریڈ زون کی منسلک کرنے والی (کنیکٹنگ) پرواز دستیاب نہیں ہے تو، آسٹریلیا سے ٹرانزٹ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ مزید معلومات [نیوزی لینڈ محفوظ ٹریول زون](#) کے ویب پیج پر حاصل کی جا سکتی ہیں۔

ٹرانزٹ قرنطینہ کے انتظامات

آپ جس ریاست یا علاقے میں پہنچتے ہیں، آپ کو وہاں کے [قرنطینہ کے تقاضوں](#) پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ آپ کو ہوٹل کی رہائش میں رہنے کی ضرورت پڑسکتی ہے اور آپ کو اپنی اگلی پرواز کا انتظار کرنے کے دوران اپنے قیام کے اخراجات ادا کرنے کے لئے کہا جاسکتا ہے۔ قرنطینہ کی ضروریات کے بارے میں مزید معلومات کے لئے، متعلقہ [ریاستی یا علاقائی سرکاری محکمہ صحت](#) سے رابطہ کریں۔

72 گھنٹوں سے زیادہ کے قیام کے لئے ویزا اور سفری استثنیٰ کی شرائط

اگر آپ اپنی منسلک کرنے والی (کنیکٹنگ) پرواز کا انتظار کرتے ہوئے آسٹریلیا میں 72 گھنٹے سے زیادہ وقت گزارنا چاہتے ہیں تو، آپ کو آسٹریلیا سے ٹرانزٹ کرنے والا تصور نہیں کیا جائے گا اور آپ کے لئے ضروری ہوگا کہ:

- آپ کے پاس درست ویزا ہو۔ دیکھیں [اپنے ویزا کے دیگر آپشنز دریافت کریں](#)۔
- آسٹریلیائی سفری پابندیوں سے استثنیٰ حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ دیکھیں [سفری پابندیاں اور استثنیٰ صورتیں](#)۔